

NFL/CORP/2025/224 December 22, 2025

Mr. Muhammad Ghufran DGM- Companies Affairs Pakistan Stock Exchange Limited, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi – 74000.

Dear Sir,

# Notice of Extraordinary General Meeting and Ballot Paper - Newspaper Publication

Please find enclosed herewith a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of National Foods Limited, to be held on Monday, 12 January 2026 at 03:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi.

We are also enclosing copies of the advertisements published today, i.e., December 22, 2025, in Business Recorder (Karachi) and Nawa-e-Waqt (Karachi) newspapers, containing the Notice of Extraordinary General Meeting along with the Ballot Paper for voting through post for poll, in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), for your record and reference.

Yours faithfully, FOR NATIONAL FOODS LIMITED

FAZAL UR REHMAN HAJANO COMPANY SECRETARY

Encl: as above.

C.c: Central Depository Company of Pakistan Limited

CDC House, 99-B, Block - 6, S.M.C.H.S.

Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

(together with a copy of the Notice of EOGM.)



## Karachi, December 22, 2025



## **NATIONAL FOODS LIMITED**

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The second of th

\*\*RESEAUX DTHS directions and additions in the existing Articles of Association of the company as per the Companyine Statement attached to the Notice of Entraordisary General Meeting as American-4, also initiated before the meeting by the Company Secretary for the purpose of identification, be and are hereby approved. RESOLVED PURITHER THAT any changes as may be required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in the revised draft shall be incorporated and the same be deemed approved and adopted by the shareholders and the same shall have effect from the date of passing of this

RESOLVED FURTHER THAT Chief Executive or Secretary of the Company be and are hereby authorized to do or cause to be done any and all acts, deeds and thinas that may be necessary or expedient to complete any or all corporate and legal formalities to give effect to the above resolution."

ANY OTHER BUSINESS:

ART Of Increasurements.

A To branch and the permission of the Chair.

A To branch and the permission of the Chair.

A To branch and the permission of the Chair.

A To branch and the permission of the Chair.

A To branch and the permission of the Chair.

A To branch and the permission of the Chair.

A To branch and the permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair.

A To branch and the Permission of the Chair

Karachi December 22, 2025

Fazal ur Rehman Hajano Company Secretary

## NOTICE OF BOOK CLOSURE

The date frame from Height (1994) and the date of the Company voll remain closed from January 85, 2026 to January 12, 2028 (soft days inclusive). Transfers received, in softs, at the others of the STATE Height (1994) and the state through the STATE LIMITED (1994) and the state of the STATE STATE (1994) and the state of the other state of the STATE (1994) and the state of the other state of

in addition to in person meeting, the Company shall also hold its EGGM through video link facility in pursuance to Circulars notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (ESCE). The members/provise interested to participate in the EGGM through this facility, as requested to get themselves registered with the Company at docstrizingscart, com or Whatshay, Plamber: 627-12/000644 by providing the following detailing the following details and the state of the Company o

	Folio/ CDS A/C #	Name of Shareholder	Name of Company	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address
			National Foods Limited			
i	fideo-link and looin credu	antiale will be chared wi	th the members/provies ud	noce email containing	all the show particu	lare are received at the rive

Video-lank and login credentials will be shared with the members provise whose email acritatining all the above particulars are received at the given email address by the close of business on January 017, 2025.

The numbers can all provise their comments and questions for the agenda items of the EDGM on email: corporate secretary/difficods.com
The Company shall communicate any relevant updates regarding the meeting, including any changes to be arrangements outlied in the Notice of EDGM, will be annually on high symbol on high

CDC account holders must submit e-dividend mandates to their participants. Corporate shareholders must also provide NTN and authorized representative's CNIC.

## Zakat & Tax Withholding Requirements for Shareholders

To claim exemption from Zalat deduction under the Zalat & Ushr Ordinance, 1990, shareholders must submit a notarized CZ-50 Form on Rs. 50-NLSP to the Share Registrar, CDC account holders must upload to well the Share Registrar, CDC account holders must upload to well to the Share Registrar, CDC account holders must upload to well to the Share Registrar (CDC, account holders must submit a 50-00, as applicable. Exemption will not be parameted to the Share Registrar (CDC, account holders represent the Share Registrar).

without complete and timely documentation.

Under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, dividend income is subject to withholding tax. Shareholders not appearing on the Active
Taxpayers List (ATL) will be taxed at a higher rate. In case of joint shareholding, tax will be withheld as per the shareholding proportion of each
holder. Shareholders must provide the following details to the Share Peoclature.

		Principal	Shareholder	Joint Sh	areholder
Folio / CDS Account #	Total Shares	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

- The information is received, equal proportion will be assumed for tox deduction.

  Carporate shareholders must ensure their HTM is updated oils CDC or submit a copy to the Stare Registers quoting their folio number.

  Exemplois certificates to lox exemption must be submitted in the Stare Registers on or before January \$5, 2825.

  Non-resident shareholders must also submit as further starting with a copy of their valler passport lox per Section \$2.00 ft the boomer Tox

  Non-resident shareholders must also submit as further starting with a copy of their valler passport lox per Section \$2.00 ft the boomer Tox

  One of the Stare Registers or do event at independent cent by January \$6, 2006. Deduction from its smallable act

  one of the Stare Registers or do event at the deductant cent by January \$6, 2006. Deduction from its smallable act For queries, contact:

Company: conpendit secretary@infoods.com
Share Registra: info@idcost.com
Usclaimed.Division(Shares
Share) separation: one of the control of t

Potatal Ballott-Vollina
The members are healty notified that pursuaset to Congraines (Potatal Ballott) Regulations, 2018 amended through Notification vide 451(1)/2025 dated Marker 13, 2025, season by the SCEP. The SCEP has directed all the leaded companies to conduct volling on every special trastress only through potatal Marker 13, 2025, season of the SCEP. The SCEP has directed all the leaded companies to conduct volling on every special trastress only through potatal Marker 13, 2025, season of the SCEP has SCEP has directed by the SCEP has directed by every special trastress only through potatal business. Accordingly, members or flational Foots Limited with the allowed to excrite their right to volt through evolving bodies for volting by post of the special business is for through potational representations in the other special business is for through potational representations of the special business in the other special posterior in the special business of the special business is for through potational representations of the special business of the special business

- Recodur for E-Varing:

  Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their raids CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses availabile in the register of members of the Company by the close of business on January 02, 2005.

  The company by the close of business on January 02, 2005.
  - The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security close will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- Clearity of the Members intending to cast vide through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

  E-Voting lines will start from January 99, 2026, 09:00 a.m. and shall close on January 11, 2026 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
- Code of Conduct for Shareholiders in General Meeting:

  1. Section 215 of the Companies Act, 2017 ('the Act') and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "Conduct of Sharehol Meetings" otate on follows:

Section 2 to 0 the companies Ad, 2017 (19th Az), also regulation 35 of the companies regulations, 2014. \*Cultivate of statements at 3-state formation and statement and final statement an

sensinguishe their email address with the Company's Stars Registrar, Mis CDC Stars Registrar Services Limited.

Generation of Privals Shares & Manddore Registration Publish
In compliance with Section 72 of the Companies Art. 2017 and SECP's directles dated March 26, 2021, shareholders holding physical shares must
convert them into Book-Chirty Form. To do so, behareholders are recompared to open a CDC sub-secount with a horizon or an investor Account with
CDC. Physical share studing is no longer permitted under PSC regulations, and electronic conversion ensures secure custody and redability.

Additionally, as required under Section 10 of the Companies Act. 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, physical
shareholders must provide their CNIC, address, email, contact number, and IBAN to the Share Registrar to ensure compliance and avoid future inconvenience.

# elines: CDC SRSL Website https://www.cdcsrsl.com/?jet\_download=7429

inconvention.

Conversion quickleiner: CDC SRSL, Websile <a href="https://www.cdcsrsl.com/rpt\_doenhod-r2429">https://www.cdcsrsl.com/rpt\_doenhod-r2429</a>
UBO Disclosioner Requirement
In complainer with S. Ro. 1356(y):2025 and Regulation 9 of the Companies Regulations, 2024, every shareholder holding at least five percent (5%) of the shares or voting rights in the Company, and the representative of any legal person or rigid arrangement holding such intenst, is required to sealind or spatch their Ultimate Beneficial Ownership (URI) Delectation.
For this purpose, a satural person holding or confrolling breaty-five percent (25%) or more shares or voting rights, directly or indirectly, qualifies as a 100-r.

and signed by sutherized officer.

Please note that non-submission or deby is submission may attract regulatory action under Section 452 of the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies of the Section 452 of the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and the Companies Act, 2017

Video Conferencia (Section 452), and 201

Consent for Video-Conferencing Facility

We, of being a member of National Facebit Limited holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No. hereby opt for hereby opt for the Conferencing Share (s) as the Conference (s) as the Con

STATEMENTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT. 2017
STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENTS UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 134(4) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION

Mentiny,

AREDIA (TEM NO. 2

ORDINANT REQUITION - RELEASE OFFICE OF PROFIT

ORDINANT REQUITION - RELEASE OFFICE OF PROFIT

ORDINANT REQUITION - RELEASE OFFICE OF PROFIT

TO ACCOR Seproved the appointment of Mr. Administrated Hexinan Isan in Texacitive Director - Projects (Supply Challer)\* in terms of Section (1) (i) of the Companies Act, 2017 as per the recommendations of Human Resource & Remuneration Committee and Audit Committee uncompany times undersease of section (11) (ii) of the company. The supplements is subject to approve oil premisers of the Company in the ordinary of section (11) (ii) of the Company in the ordinary of the Company in the Ordinary of Section (11) (ii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Company in the Ordinary of Section (11) (iii) of the Ordinary of Section (11) (iii) of the Ordinary of Section (11) (iii) of the Ordinary of Section (11) (iiii) of the Ordinary of Section (11) (iii) of the Ordinary of Section (11) (iiii) of the Ordinary of Section (11) (

Companies Ad. 2017. Accordingly, the Board of Directors proposed ordinary resolution pursuant to Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act. 2017, to accord approximately accordingly, the Board of Directors are proposed ordinary resolutions and the Section 171 (1) (c) (ii) of the Company for holding of office Management of the Section 171 (1) (c) of the Company for the Section 171 (c) of the Section 171 (c)

S. No	Details	Description
i)	Details of the office of profit proposed to be held by the director;	Mr. Mohammad Hamza Hasan's appointment as an "Executive Director - Projects (Supply Chain)" of the Company
ii)	Brief job description of the office to be held by the director;	Lead key procurement and supply chain transformation projects to support National Foods' Limited strategic objectives.     Act as a bridge between strategic planning and operational execution.     C. Maintain direct accountability for project success with high visibility to senior leadership.
iii)	Remuneration of the director, including perks and benefits, pecuniary or otherwise;	Rs. 15,513,984 per annum
iv)	Benefits to the company and its members as a result of such office of profit to be held by the director; and	It will drive strategic initiatives across procurement and supply chain, enhancing efficiency, reducing costs, and creating sustainable value for the company and its shareholders.
V)	Period of holding of such office.	For the remaining term or until the conclusion of the next election, whichever is earlier.
vi)	Nature and extent of interest, if any, therein of every director, whether directly or indirectly.	Mr. Mohammad Hamza Hasan himself and Mr. Abrar Hasan being his father are interested in this matter.

Special Resolution – Alteration in Articles of Association
of a second of the Companies Act, 2017 and other applications of the existing Articles of Association.
These proposed anomelometra are reflected in the Companies Chalenton at anomatic of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remainments, and open administration of the Articles with current corporate governance practices, remained and administration of the Articles with current corporate governance practices, remained and administration of the Articles with current corporate governance practices, remained and administration of the Articles with current corporate governance practices, remained and administration of the Articles with current corporate governance practices, remained and administration of the Articles with current corporate governance practices, remained and administration of the Articles with current corporate governance practices, remained and administration

esolutio	in.		to approve the alteration in the Articles of Associ		n-A)	
S.No.	To be inserted after existing Article	Article Heading	Existing Clause	New Article Reference & Title	Proposed Amendment	Rationale / Justification
1	Article 14	Certificate	New Clause	14A. Dematerializat ion of Shares	(a) The Correspoy resy tosus, meliatars and transfer shares in toose-lenty from through the Contral Depository Systems and transfer shares in those-lenty from through the Contral Depository Conquery of Protestan Limited (*CUCF*). The Correspond of Protestan Limited (*CUCF*) and the Companies Act, 1997. (a) The Cortestal Depositories Act, 1997. (b) The Correspond State of State Stat	To provide for issuan maintenance, and transfer shares in book-entry to under the CDC regime compliance with Section 72 the Companies Act, 2017.
2	Article 66	Directors	New Clause	Art. 66A – Independent Directors	(a) The Board shall include such runther of independent directors as prescribed under Section 166(2) of the Companies Act. 2017 and the Code of Corporate Section 166(2) of the Corporate Section 166(2) of the Independent directors shall most the displatify criteria prescribed transparent process ensuring disensity, competence, and independence of judgment.  (c) Any vacaney of an independent critector shall be filted by the Board variety within the time period specified by applicable lows.	166(2) of the Act and Chap 2. Regulation 6 of the List Companies (Code Corporate Governant Regulations, 2019.
3	Article 66A	Directors	New Clause	Art. 66B – Female Directors	The Company shall ensure that at least one female director is appointed not be more than the meter of the provisions of Section 154(1) of the Companies Act, 2017 and any other applicable regulations. Such female director may be appointed or elected as non-executive, executive, or independent director as the case may be,	To ensure compliance we Section 154(1) regardinandatory fem representation on the Board
4	Article 668	Directors	New Clause	Art. 66C – Board Committees	(a) The Board shall constitute committees including but not limited to.  I Audit Committee:  I Human Resource and Remuneration Committee, as required under the Code of Corporate Governance and applicable laws.  I Human Resource and Remuneration Committee, as required under the Code of Corporate (Sovernance and applicable laws.  I Human Resource shall operate under a written Charler approved by the Board defining its Composition.  On Earth Committee shall operate shall operate for the Board for information and consideration.	To provide flexibility constitution of Box Committees in accordan with the Code of Corpor Governance, 2019.
5	Article 66D	Directors	New Clause	Art. 66E – Relizted Party Transactions	(a) All related party transactions shall be activated out on a mark length basis and in the best interest of the Company.  (b) In case majority of the directors would be interested in any related party transactions, the matter shall be placed before the general meeting for approval as special resolution.  (c) Any related party transaction not (c) Any related party transaction not (c) Any related party transaction meeting in the state of the st	To provide flexibility constitution of Boc constitution of Boc Committees in accordance with the Code off Corpor Governance, 2019.
6		COMMON SEAL	The Directors shall be provide for the safe custody of the seal and the seal shall not be seal shall not be seal shall not be seal shall not shall be seal of the seal shall be seal of the seal shall be seal of the seal shall be seal shall be seal of the company is seal shall be seal of the company is seal shall not shall be seal of the company is seal shall be seal of the company is seal shall be seal of the company is seal.	Execution of Documents Electronically/ Digitally	The Company may except, crediats, and refain documents, notices, and ordain documents, notices, and except the control of the	To recognize decognize of the decognized and dig dispartures in accordance to the the check of Transaction of the Conference (2002).
7	Article 84A	CAPITALIZATION OF PROFITS	New Clause	Art. 84B — Electronic Dividend Credit	All dividends shall be paid only by electronic credit to shareholder's registered IBAN. No physical warrants for primary distribution.  Shareholder must provide/maintain usid IBAN. Company not liable for cleays/failure due to incorrect details. Board may authorize payment via bank draft in execcition.	Compliance with Sec. 2. Companies Act 2017 & P Rule 5.11.1(a). Ensus mandatory electronic payme Risk Management. Sh responsibility for accurate by details to shareholders. Practical Necessity. Allo Company to eathe legitim dues where electronic trans is impossible. Preve perpetual lability.



Karachi, December 22, 2025

# **NATIONAL FOODS LIMITED**

# **Extraordinary General Meeting**



Monday, 12 January 2026 at 03:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on 12 January 2026 at 03:00 p.m. at Beach Luxury Hotel, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi -74000:

Website: https://www.nfoods.com/

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick ( $\sqrt{}$ ) mark in the appropriate box below; Special Business:

- 2. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the resolution appearing below as an ordinary resolution for seeking approval of shareholders for the appointment of Mr. Mohammad Hamza Hasan as Executive Director of the Company and holding the office of profit in terms of Section 171 (1)(C)(i) of the Companies Act, 2017.
  - "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 171 (1) (c) (i) of the Companies Act, 2017, consent of Members be and is hereby accorded to authorize Mr. Hamza Hasan for holding office or place of profit under the Company, as Executive Director of the Company, for next term of the Board, at a remuneration, other entitlements and terms and conditions as may be determined by the directors and altered from time to time, as per the Company's policies.

## 3. ALTERATIONS OF ARTICLES OF ASSOCIATION

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolutions as special resolutions for alterations of Articles of Association of the Company:

"RESOLVED THAT alterations and additions in the existing Articles of Association of the company as per the Comparative Statement attached to the Notice of Extraordinary General Meeting as Annexure-A, also initialed before the meeting by the Company Secretary for the purpose of identification, be and are hereby approved.

**RESOLVED FURTHER THAT** any changes as may be required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in the revised draft shall be incorporated and the same be deemed approved and adopted by the shareholders and the same shall have effect from the date of passing of this special resolution.

**RESOLVED FURTHER THAT** Chief Executive or Secretary of the Company be and are hereby authorized to do or cause to be done any and all acts, deeds and things that may be necessary or expedient to complete any or all corporate and legal formalities to give effect to the above resolution."

S. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	Agenda Item No. 2			
2.	Agenda Item No. 3			

## NOTES:

Sh

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman/Company Secretary, NATIONAL FOODS LIMITED at 12/CL-6, Claremont Road, Civil Lines, Karachi, or email at <u>corporate.secretary@nfoods.com</u>
- 2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman/Company Secretary within business hours by or before Friday, January 9, 2026 Any
  postal ballot received after this date will not be considered for voting.
- 4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (in case of foreigner).
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
- 6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member must attest all documents.
- 7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: <a href="https://www.nfoods.com">https://www.nfoods.com</a> Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

	Date:
areholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory	
(In case of corporate entity, please affix company stamp)	



1 ( か ) かいまま ( か ) か

201 کتر ر 2025 کو مشعقدہ سالاند عام اجلاس کی کارروائی کی توثیق کریا۔

کے لیے اگر مناب سمجاجاتے تو، مندر جہ دولی قرار داکو عام قرار دادے طور پر ، اللی کمی تر مم کے باتر مم کے ساتھ، منظور کرنے پر فور کرنا-

على المراكبة المراكبة ( المراكبة الم الإرواق الأراب عبد الكلاية و الإراب و الأراب المورد و الأراب المورد و الأراب المورد الكراب الكراب المورد الكراب المورد الكراب الكراب الكراب المورد الكراب الكراب المورد الكراب المورد الكراب المورد الكراب الكر

مقصد کے لیے مینگ ے قبل کمین سکر بڑی کے وعظ موجودیں،اس کے دریا معدر کے جاتے ہیں۔"

علی سے بے چھے ہے کا کا بخراری کے انتخاب علی ہے جھے ہے۔ معربی ہے بھے انکور کی بیان کے جائے ہے کہ ان کے ان کے جس معربی ہے بھے انکور کی بیان کے جس سے علی ان کو ان کے جس کے بیان اندیس آورون کی بھی کا کہ ان کے ان کے جس سے معربی اندیس کے اندیس کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے اندیس کے مسلم ک

امورانهام دی داکردای..." ویگر امون

بھیر مین کی اجازے سے کوئی اور معاملہ زے خور الثار

کھیز دیک، 2017 کے سیکن (1343 کے اللہ ایٹر 1 اور 3 اور 3 سے مطلق الموسى اوروائى كى وشاحى رورت اس اولى ك ساتھ ممران كا ارسال كا جارى ہے۔ - F LIN

لحلل الزمئن بجائد سمین شیریتری

2025 / 222 00

س ک علی کا کاری کاری

۔۔۔ گھی کی شیئز زائسل تک 2 جوری 2026 سے 12 جوری 2026 تک (العمل 10 اول 11) بند روی گی۔ وہ زائسٹرز جو دارے شیئز رجسوارہ میروسی ایک کی شیئز رجسوارہ میروسی المبلاء می ای می پاس 99-يي، باک" بي " ، ايس ايم ي انگا ايس، ين شاهراه فيمل، كرايي -74000 كه وفتر يس 2 جوري 2026 كو كاره باري او قات كه اختيام مك درست حالت يس موسول بوس كم، اخيس حتي ر بر البيان که اور اور البیان کارگری دهار که به در این می است. 2- وطی هدیس بعد ک را در چر همل دم اینان می فرکند: واقی خرد به این می فرکند ک روانده کی نگرید از دار نگانی کنی آل (اینان) ایش این کار فرکز از ک مواقق وایی کنی از این این از فر محمل

ما 1897 شنظ کسے کی۔ وہ کہران ) یا کین 18 اس بھوٹ کے ایسلے 1891 میں طوال میں 18 میں ہے گزائی ہے کہ 19 مدنی ڈیل تھیاں قرام کرتے ہوئے colorigodexnal.com ان کل کے اس بے بامال ایپ فرر 1834 و2002ء کال کے ساتھ میل (مشرائی کردان) :

رجعروای میل ایدریس	مواکل قبر	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	7 × 6 ×	فيتر يولادكا يم	قلع/ ىلىاش المادت فير
			ميلئل فواز لمولا		
		وره بالا تهام تفسيلات شاش بول، مقرر تعلق الخار آمامه الدر سوالات مجل در			ویڈی لک اور لاگ اِن کی تصیاحت اُن میران /پراک

coppones secretary@schools com to compone secretary@schools com to compone secretary@schools com to come to co

ہا جست کل کا کا کا بات کا بیک چک بھی بیت سے ہماریں کی جائے اک ہول آباد کرنا میری ہوئے۔ سیکرویو اور انجام کی تاکہ اور (Secol) اور کشت 2017 سے مثال میں اور اور انکام کرنا کا توان کا کہا کہ ایک کیشنری فراہی ووی ہے۔ فریکل غیزز کا وال کرنا ہے۔

ا م جل آرایش، 2001 فق 150 کے قت منافی (ایافیات) کا آرنی دو مدلائے کئی او کو ہو ہے۔ او غیز مدلد ( جن کے مواج کی میز داسد ( ATL) عی خال میں ہان سے زیادہ فرت کے اس

•• قائع/ی کا ایش انگاوت تیر••	كل فينزد	امل هية	زبولار	572	فيتر بولار
		عام اور المالحتى كارة فير	فيترذى تعدد / تاب	عام اور الماخق كارؤ فير	شیرزی تنداد / عاسب
	1 1				

اگر کوئی معلوات موصول ند ہوگی و لیکس کی کوئی کے لیے سادی تاب فرض کیا جاتے گا۔

کار پورے شیخ ہولار اس بات کو شیخی پیائی کر ان کا ای ٹی این (NTN) کی ای کی کے ریکرڈ بھی اے ڈے ہو، یا فیلو کیر

ور معلمات کے لیے دہا کری۔

ور والانتخاصة على العمن : 2- في والتحديث المستوفع العمن : \* شيخ الدائد الدائم كان وبر سيد الإعلاق على المراكب المحل المحل المحل المواجع المستوفع المستوف شيرٌ دجسرًا در ميرزي وي مي شيرٌ دجسرًاد مرومز لبيلا، مي وي ما 1000-لي، باك "في"، التي ايم مي الله التي، من شابرا فيعل، كرايي 74000- مدايل كري.

میران کوروریدان واس مطاع کامیان ہے کمینزوع علی بیات ) ریک مینز 2018ء جس میں ایس ای می یا کے فیلیش نیم 451(1)/2025 مرداد 13 بدی 2025 کے دریا تا ترسم کی گان ، کے قت نیم پر دیگانگی کئی آلد با آنیان (SSCO) شام از کین که بارد با یک سیک که این با در داش سراے مل دولت کا دیا کہ او به دید بن جم سادت به نهران که انگیزتک دولت اور دائش که میان که میان دیگر فاؤد لیند کا نهری که 2010 که سر پر 2000 میک منتقد بدا در 1 اندو نیم سمول مه چواس که دارد به فراد در کلیم تری دران اور دولیو ک ساتی الب دران سروی که داری ا NJUL SILL SILL SEN SEN ALLEN

ميل فواز ليون ك اداك هدر يري الرياط ك ادبية ووث والدي كالتحب كرك ويربط وي كان كروب مات www.nfoods.com.pk في وا

ر من الموادوع من الانتهام مومي المصلف المنه المساعلة المنها المنها المنهام المنها المنهام المنهام المنهام الما وأن المهمة المنهام المنهم ال (iii) براو كرم او ف قرياي كد اكروو تك يس كى تازي صورت ين ، الحول ايك عن إلاه وت الف كم معاف ين ، المارين اجلاس كاليعل حتى اور قابل قول او كار

(i) الانظامي المواحث كا تصلاحات أن تتام حسمي المنطاق كواق مثل من المساعرة من المواحث كالمتعاد المورموم الك المورموم الك المورد المسارات الله المواحث كالمتعاد المورموم الك المورموم الك المورد المسارات الله المواحث ) کیائے کے ممبر زر جستر میں جد 2 جوری، 2026 کے کاروباری دن کے افلام پر موجود جو 3.

سی بین بردند می ماند می این مین به مین مین سیاست مین بین است. (ق) کم مین ارسین از مین اکس این هیده مین رسان می کند کردند و بین کم بین که از اداری ای کارگذا اداری کم از این ک در شود در داندان این هیده رسین از مین که در این مین که بین مین که در این هم زند که در این این که این این که در این این مین که در این هم وی که بین که در این این مین که در این هم وی که بین که بین که در این که در این که در این این مین که در این که در این که در این این مین که در این این مین که در این این مین که در این ک

(۱۱) كان الحداد من كل 1900 بية 6 جود كان 2000 يريس كان كان 11 جود 2000 كون 2000 يك بلود كان كريسة 1900 يريد من كريسة 1900 يريد 41 من المائة كان موسوحة كم كواسته عن جود في كريسة كان المواقعة في المواقعة T- مام اجلاس على شير بوالدرد ك لي ضابله اخلاق:

ویز دیک، 2017 کے عیلی 215 اور کمینز ریگرمینز، 2024 کے ریگر ایش 55 کے اقت " اجاس میں شیز بولارز کے طرز

عمل " ے حقاق درج الی بدایات الله: (i) ایما کوئی مواد املاس میں نہ اوا جائے جو شرکار یا املاس کی جگہ کے لیے محفرہ من سکا ہے:

ii) محظے صرف نولس میں شائل ایجٹدا آسٹوز تک مدود رکی جائے: iii) تبرے اور کھٹ صرف میٹن کے امور تک محدود بور) اور

اب المرز عمل المتبارية كما طائع جس سے كس ساى وابقى كا انتبار يو با ديگر مميران كے قد اي ميتبات مجرورة يول-

رو پر ان کیل ذکھہ 1201 کے مجل 188 امد امال ای کی لیے عبول کردہ اس آراء 2025(1/2025 مورفر 17 ماری 2025 کی کھیل جن اربید منظل کیا جاتا ہے کہ مام اجاس بی شیخ براور دار کا کسی تھی جا ہے کہ مورب میں خاتک تھیم تھی کے جائی ہے۔

ہ۔ کی سمول میں کا فران کی میں ہے۔ فیر سمول میں ہواک وائر اور کا ذکت 201 کے سمجھ (1943 کے تھے خوس کا دہارے منظل دشاتی بیلات کو ہوارے کی جارے ہیں میٹوں سا اسکان کی لیے کا ملک آراء 2005(4520 کے سائل نبیاق کا کس بین فران کے ہیں۔ غیز میروز وی مسل ایون کی جات ہوا ہیں تکل بیاری کے تی رمیزار ، میروز میں ہی تی تی ہوار

روم لوال ك إلى ادمال يا اليه ليك كروايل-ور ہوگا ہے۔ اور کا میں میں ہوئیں۔ ان کیال بخوری کو بلی اندوں معرفی تھیں۔ ممکن مک سازہ کے محل کے دور مدکن میں کی دور مدر مدور 2010 کے مطاق، و فوار مقار در فوال خوز رکھ ہیں، اٹٹی دول فور میں کے بریل کو ممکن سازم مصرک کے خوارد کر کاروکر کے دریک وال میں سازہ میں اور اندوار کا معرف مکول کی ترق میں کا بھی کے اندوار

یٹوزی لایٹ کیا میٹ تی ہے۔ بی ایک افزاف ہوئی ہم ہوئی جس عالی تھا۔ مور پرائس کیوزطف 2017 کے مجل 110 اس کیوز کھیٹوں 2011 کے رقع کی وہ ک تھ ، فوکل کیواروز کوئی کا فواق کا کھیٹا کی رہیز نہر اس آئل ہی 2010 کا بر میزاد کو (حم کرنام کا کا فائل خاص ک کی ملا ہے ہے سعیلی میں کوم کی وخوات سے باب عظے۔

ته في سے محلق رضائي CDCSR عب مالك: https://www.cdcsrsl.com/?jet\_download=7429

# نيشنل فوذز لمبيئة

10- حتى منتفيد بوت والے مالك (UBO) كى معلومات كى قرامى ان او 1356(1)/2021 ادر كينيز ريكوينيز، كريينز و كوليل عي، كين عود تام شير والدرج مم وام يا في فيد (دي) صعى يا ووثك ك حقل ركت وي، ياديت كي الون میں اور ان ا میں اور ان ا میں بر بر ان ان اور ان اور ان بر کار ان اور ان اور

11- ويكر خرول عن ويدي كالزنسك مولت

ار کل ادا شدہ مریانے کے دی ایسد (10) یا کیکٹی کی جانب سے مقرر کردہ کی دیگر ایسد کے حصی رکھے دالے عمران کی دومرے شیر علی مقیم ادان، آو کمکٹی اینے عمران کو مام اجلای علی الموجية الموجة الموجة

ویڈج کا نفرنسٹک میوات کے لیے رضامتدی \_ ، ينور نمير بينتل فواز لولاء جس ك باس مام حس فواء لير 12 5 00 2 5 - 18 18 - 1 00 100 25 6

B.C.

كينز ايك، 2017 ك سيفن (3)134 ك قت يالت

مدے یہ ایکنیکا والزیکٹر کے طور یہ مقرد کرنے کی متحودی وی جاسکا۔

ام عائل اور اكثالت:

ار (B(3) اور (C(2) کے قبتہ SRO 423/2018 میں طلب کروہ معلومات والی میں فراہم کی گئی ہیں:

P	عَالَقَ اور الكِثَافات براسة الجيارا آعم فير2	
AN	هيات	وفاحق
i	الاريكارك وريع دكك وال منافع بنش عدى كالصيات	جنب اور حره صن کی بدور " ایر کیفردان کیفر - پروجیکنس ( سال فائن)" کے خور پر تقرری
ii	اوزیگر کے جدے کی مختم خاذمت کی تنسیل	<ul> <li>یکی آواز لیوند کا مانویتیس میتومد کی مواید کے لیا امر اور اور ایس اور تیل کا جو بی کو کار فی کی جو بی کا معربی رک اور بیان کا میران کی سرفیار کی جو بی کار اور ایر کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا</li></ul>
iii	قائز يكثر كى تخواده، مراحات اور فوائد (مالى يا ويكر)	15,513,984 دب مااند
iv	کی اور اس کے میران کو اس میدے سے حاصل ہوئے والے قوائد	بیر پر د کار دخت اور میانی بختین ش احز بینجی اقد دان که آگر بزمان کاه کار کردگی ش امثاف کرے کا، افر اجات که کم کرے گاندادر کافیاد در اس کے شیخ اوالڈ در کے کے پائیواد قد در پیدا کرے گا۔
v	ال جدے کی دے	باتى دت ك في يا مح التجاب ك القام مك رو ملى يها بور
vi	پر دائزیکر کا برم راست یا باداسد ای میدے عی د گیان کی توجیت اور مد	چنب که عزه عن قود اور چنب ایرار عن (داند) این معاسط شن داگین ریکتے ہیں

حالاتا م بود تمو کرده - آنالا کل سوری اقال می قشام کل که افزالات میزی اقوار کل مادر ۱۱۵ بدر ۱۸ میزند کار از ۱۸ میزند و در ایک ساز بدر ۱۸ از ۱۸ میزی اقال می یک ویم بد استا کی تمویز کل کار افزالات میزی اقوار کل کل در ۱۱۵ بدر ۱۸ میزی کار ۱۸ میزی و در ایک ساز بدر ۱۸ میزی از ۱۸ میزی اقال میکرد ۱۸ میزی تا میزی

ول کی ہے۔ یہ نجونز کردہ ڈائیم غیر معمول عام ابھائی کے ٹوٹس کے ساتھ شک مواد (Comparative State) عن يغور Annexure-A ثاق ول - ان تهدفون كا مقصر الريكو كو اب ارت

فیزولارز سے وراواست سے کہ وہ آریکلو آف الموی ایکن بی را زائم اور اضافے منظور کرنے کے لیے جوزہ خصوصی قرارواد کا منظور کران

			(4)	م كا قال ايان ( ير	رايوى المؤنث عن روا	رجراد
چالا /وشاحت	J 43 W 28.	4.19.7 EL 21.14.14	Porr	UPYURI	ENVOCA	A
کے کھا کے کچھ کے کچھ کھس کی کے سوک 18 م بھی بھائی پر آزوادہ عقل کرنے کے بوطات خواج کو حاک کمیڈو ملک ، 2017 مجل 27ک کمیل اور بھی	را که با کور کارد با برای با که با که با برای با برای به که می است می	14A. كائل يوري تويين	<b>ಕ</b> ರ	بربائيت	14,19,7	10000
علی (1662ء منز کھڑ(ڈ) آف کھرارے کم ٹریک کھیئی (2019ء کھڑ 2018ء کے آوروز کھڑ 2017ء کے کوروز کر دے کا فواق کے	ره با در ها به این این این این از خل اس به بیشار (ه) کافیر میک در از میکن به از از از از این اس به بیشار به از در این از این استان به این از این از این استان به بیشار به این	66A JEJT 185- 19630	ಶತ	2/K54	es Dis	
پردا میں 10 ای فاقان لیائی کے حالے سے سیکش (4)154(1) اقبیل کو چیل 154(1) کے۔	کی بر طی با سال کی برده میں کم در کم ایک جاتون فائزیگر کی خزری کافیز الک مد 2017 سیکس (1)441 اند ویک حفظ قرانعر الموابق کی طالب کے فرانعر الموابق کی المیان کے بالے کے برخان فائزیگر الاور میان المیکنگان ایک فائزیگر مقرر یک خزک کی باسکونان میں کر معالد اور	66B - JŽJ 1)Æ316JA	33		7.90,000	
2019 - ش، 2019 ك 100 كار	(مای) را سرخردسه نیخ هجارید سکه توجی فالهدای است. که تیجی فالهدای کلید:  را کلت نیک ایسان کلید:  را کلت نیک ایسان کلید بیشتر که کل کلیدی بیشتر که الکستان کلیدی بیشتر که الکستان کلیدی بیشتر که الکستان کلیدی بیشتر کلید:  (مایک، نیک میکندای میکند شده فرق که فارس کلیدی کلیدی میکند کلیدی میکند کلیدی میکند کلیدی میکند کلیدی که میکند کلیدی میکند کلیدی میکند که دوران کلیدی میکند کلیدی میکند که دوران کلیدی میکند کار میکند کلیدی میکندی میکند کلیدی میکند ک	66C-UEST Addise	<b>3</b> °8	2,KM	66BJÉ∄	
برو کین کے قیم اور فاقال حقد فرق کے گئی ہیں کا طریعہ کا کہا کے کا ایوب کو تش کا کوار 2019 مائل کیا کہ (وام کر کے	(ما تام معد الرائد تحديدي بدر كان مديدي بدر كان كم ميل مديدي بدر كان كم ميل مديدي بدر كان ميل مديدي بدر كان ميل مديدي بدر ميل ميل مديدي بدر ميل	66E - 足ゴ とける くっぱ (Related Party Transactio m)	<i>3</i> ° 8	2,Æ34	66DJ£∄	
. Et a seven sist	کی دیجاریت و قرش اور دیگاراز که ایکارافک آدم می ازد. گروش اور مختل که سال جورسی که فاقیل یا دیگر فنک و مختل که سال جورسی که فاقیل اثر قریکل ازد. ک میلی بونک چیاک دیگر فک فراد یک تاکز آرایشگر. تارا مادال بونک چیاک دیگر تک فراد یک تر آرایشش. 2002م. تارا مادال کا تحدید که ایکار فراد یک مفاتل ہے۔		الانتخار کیل کی میر کی محملا رکھوئی کے لیے اقدامات کری کے اور میر کمی می وستان یہ میرف چارڈ کال الانتخار ڈی قراراد اوا پائیراڈ کی جائے ہے۔ الانتد بالان اوا کیلا کی کھائی کا			

کے اور میر کمی جی دستاویز یہ مرف ہودا آلک ڈائزیکٹرڈ کی قرارواد یا بررا کی جاب سے اعتبار بالاد وائز کارز کی سمجن کی

القاید باط دائد تاریخ بازی محل ی اجازت سے قائل جائے گا، اور کم از کم دو الازیکٹرز اور محکم بازی یا پردا کے مقرر کردہ محک اور العمل کی موجود کی میں، اور وورد الازیکٹرز و اور محکم بازی یا خدکرور الازیکٹرز و اور محکم بازی یا خدکرور

الل بر وعاوید پر وحظ کری سے جس پر کھن کی میر اس

-n 8 30 C)

32 8

الإزائل

44/240

77,19,1

BANDA

SEAL)

ليستنا زيلن

التحكول كو الكاراك المائريكتار

الريش، 2002 معايل تناج

مين مادوم كين الحد 10010 م

النسية من أحد داري شيئر بوللروزي عمل كريد

ملى خرورت : كان كو قانونى داجات

گی دوانگل کی امیازت جبان الیکتر اقاب ارانستر ممکن ند دور مستقل اسد داری

اراه فا غاز مرف شيخ بولار يرجسود IBAN مي الكفراك

بدرا کو انتظامات طور پر ویک اراف ک درسان ادامالی کرنے کی

:Sa. Srein



# Karachi, Monday, December 22, 2025

_ ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	نیشــنـــل،	Nation	1
		غيرمعمولي اجلا	SPACE TO	10
		يروز وروي 12 جوري 2026 يوت 00		
		خسوس کارد باریردوشک		
برس كاريد ووق كالم والديم		رى يو على كرايق - 74000 يس منعقد بو _ والى ف		0
	https://www.nt	العالث:/foods.com		
			لذر / مشترك شيئر بولدرد كانام	شيتري
				رجنز
			کی تعداد اور فراو تمبر مرد در مداخل ما در این کار مرد در می کار در در می کار در در در	
		14 . 00 . 63	از: قوی شاخی کارا نیر (کانی شک <i>ک کری)</i> منابع	
- 100 P. C. a. 13 - 56-1050	here and it was	ال سومت إلى مما عدا في صورت بن) رع يمن البياة / الاراء ووث ك استعمال كالعلان كر	معلمات اور همیر جات (کارم دیث اوارد و قا زید و ایک ساد در ۱۹۶۸ قرورد در سرک د	
	The market of market delicated and	UNION IEUMEMI ÇIVE	بدرجه و المساعدي عليم كرت جي: ن يامدم د شامندي عليم كرت جي:	
				رب سر تصومی)
ر فائز ہونے کے لیے شیئر ہولارز کی حقوری	الد عزه حسن کی تقرری اور منافع بخش عبدے	ك قت كين ك الكركانوة الزيمنرك طوري جناب		
	-15, 1 2 L S 18. 24 C 15	فراروا کومام قرار دادے طور پر ، افغیر کمی ترجم کے پات	ولي اكرمناب مجاجات قرومندرج ولل	رن
		1) 171 کی و فعات کے مطابق، ارا کین اس قرار واو		
ر يكترزى جاب ، و كافو كاسترر اور جدخ	ر شر الله و ضوابط محمین کی پالیسیوں کے مطابق ڈائ	اب، جس کے لیے اُن کا معاوضہ ویکر مراحات اور		
			- القدائدوي ايش على قرائيم	عیں <u>م</u> ے ۔ مہ علا
			ペーン (エップー) ごっぱい しょう	
ے شکل گالی بیان می ورئ الل اور جن پر ال	ن جزل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ بھور شیر۔	کر متاسب سمجاجات قر، مندرجہ ذیل قرار داود ل کو ایکٹن میں گزارہ آرایم اور اضافے، جیسا کہ قبر معمولاً حقام دوجہ دیں اس کے ارسام حقور کیے جاتے ہیں۔ کا اس کا معرود کیں اس کے ارسام حقور کیے جاتے ہیں۔	آر فیکڑ آف الدوی ایٹن ش فریم کے لیے، ا کیاکہ کر سمجن کے موجورہ آر فیکڑ آف الدو ی رکے لیے میننگ سے مجل کھن میکر ماری کے و	ئین ک الے کیا کے مص
ے شکک 8 ملی بیان میں درخ آل اور جن بر شا گی اور افیس شیم بولڈرز کی جائب سے منھور ش	ہ جزل چنگ کے فرٹس کے ساتھ بھور خیر ۔۔ ۔ ں حم کی تید بلیاں ریار یوں آووٹ ل کی جائیں''	اليقن عن مجوزه تراميم اور اضاف ويساك فير معموا	آر یکلڑ آف اندوی ایشن عثی ترجم کے لیے، ا لیاک کہ سکھڑکے موجودہ آر یکلڑ آف اندوی رکے مینظمت کیل سکھن سکر بنزی کے دو نے کیا لیاک سکیور نیز ایک پینٹے کمیشن آف یا او تصور کیا جائے کا، اور بیر تراسم اس خصوصی آ نے کیا لیاک کہ سکھڑک جیف ایکر بینو ایکر بینو یا سکر بینوی اسکر بینو	ئىپنى ك " خەكيا كەشھە مرە يە- مردە يە- مردە يە-
ے شکک کالی وان می درئ الل اور جن پر کی اور المیس شیئر ہولڈرز کی جانب سے متھور : ام کار چ ریٹ اور قافونی اقد ابات اللال و تا	ر جزل جنگ کے فرٹس کے ساتھ ابور خیر۔۔ رحم کی تبدیلیاں در کار جوں آدو شال کی جائی۔ ان کے لیے شرور ک یا مناسب سمجھ جائے والے ا	ایکن میں گاؤہ تر آئم اور اضافے ، جیسا کہ غیر معمول حقط موجد دیں اس کے اور بیا منظور کے جاتے ہیں۔ استان کی جائیے سے نظر جائی شدہ مسووے میں اگر کو فرادرداد کی منظور کی کار تائے تافذ العمل ہوں گی۔ رکی کو احتیار ویا جاتا ہے کہ دواس قرار داد کو تافذ کرنے	آر یکٹر آف اندوی ایشن میں ترجم کے لیے، ا لیاک کہ مکٹل کے موجودہ آر یکٹر آف اندوی رکے لیے مینظم سے کبل میٹن میکر بنزی کے وہ شے کیا لیاک سیکیور فیزونیز ایکٹریٹ کیمٹن آف یا رو تصور کیاجائے کا، اوریہ تراسم اس خصوصی آ شے کیا لیاک کہ مکٹن کے چیف اگر یکٹریا میکر کا کیا میکر کا ایکر کا	ئىپنى ك " خەكيا كەشھە مرە يە- مردە يە- مردە يە-
ے شکل کافی جان میں ورث آف اور جن ی اُل دور افیس شیئر بولڈرز کی جانب سے سھور	ہ جزل چنگ کے فرٹس کے ساتھ بھور خیر۔۔ ۔ ں حم کی تید بلیاں ریار یوں آووٹ ل کی جائیں''	ایگئی میں مجوزہ تر ایم اور اضافے وہیا کہ قبر سعوا مخلا موجو دیں اس کے اوسیع منظور کے جاتے ہیں۔ انتان کی جانب سے نظر جائی شدہ مسودے میں اگر ک اور اورو کی منظور کی تاریخ سے نافذ اصل بول گ	آر یکلڑ آف اندوی ایشن عثی ترجم کے لیے، ا لیاک کہ سکھڑکے موجودہ آر یکلڑ آف اندوی رکے مینظمت کیل سکھن سکر بنزی کے دو نے کیا لیاک سکیور نیز ایک پینٹے کمیشن آف یا او تصور کیا جائے کا، اور بیر تراسم اس خصوصی آ نے کیا لیاک کہ سکھڑک جیف ایکر بینو ایکر بینو یا سکر بینوی اسکر بینو	ئىپنى ك " خەكيا كەشھە مرە يە- مردە يە- مردە يە-
ے شکک کا کی بان نگ ورٹ اللہ اور جن اُل اور الرش شیئر اور لڈر ز کی جانب سے متھ اس کار پوریٹ اور کا ٹوٹی آقد دیائے ، انتمال، وہ میں / اس قرار داد کی کافلے کر کے	ر جزل چنگ کے فراس کے ساتھ ہور خیر ۔ در وہ کی تبدیلیاں در کار وہ ل آو وہ شال کی جاگی ا ف کے لیے خروری یا ساس سجے جانے والے ت بھی ایم قرار داد کی تعلیمت کرتے	ایکن میں گاؤہ تر آئم اور اضافے ، جیسا کہ غیر معمول حقط موجد دیں اس کے اور بیا منظور کے جاتے ہیں۔ استان کی جائیے سے نظر جائی شدہ مسووے میں اگر کو فرادرداد کی منظور کی کار تائے تافذ العمل ہوں گی۔ رکی کو احتیار ویا جاتا ہے کہ دواس قرار داد کو تافذ کرنے	آر یکور آف الدوی الیش می ترجم کے لیے، ا ایک کہ سکون کے موجودہ آر یکور آف الدوی ایک کی سکون کے دور الدوی کا سکون سکر بنزی ک و نے کیا گیا کہ سکیوں نیز ایک کی سکون آف یا اور تصور کیا جائے کی دور پر تراسم اس خصوصی آ نے کیا گیا کہ کہ سکون بیند انگریکنو یا سکر می نے کیا گیا کہ کہ سکون بیند انگریکنو یا سکر بین ایک اور اداد کی فوجے اور تھسیل	کیون کے اسطے کیا کے مصد افتیار کرہ افتیار کرہ افرامورا
ے شکک تکا لی بیان عمد ورین آن اور جن کی اور افیش شیئر ہو لڈرز کی جائیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	ر جزل چنگ کے فراس کے ساتھ ہور خیر ۔ در وہ کی تبدیلیاں در کار وہ ل آو وہ شال کی جاگی ا ف کے لیے خروری یا ساس سجے جانے والے ت بھی ایم قرار داد کی تعلیمت کرتے	ایکن میں گاؤہ تر آئم اور اضافے ، جیسا کہ غیر معمول حقط موجد دیں اس کے اور بیا منظور کے جاتے ہیں۔ استان کی جائیے سے نظر جائی شدہ مسووے میں اگر کو فرادرداد کی منظور کی کار تائے تافذ العمل ہوں گی۔ رکی کو احتیار ویا جاتا ہے کہ دواس قرار داد کو تافذ کرنے	آر یکور آف الدوی الیشن میں ترجم کے لیے، ا ایک کہ کھٹی کے موجودہ آر یکور آف الدوی ایک کے مینظم سے الی کھٹی کیٹر بنزی کے وہ ایک ایک کو سکیور فیزونیز ایک کھٹی آف یا ان تصور کیاجائے کی اور بیر تراسم اس خصوصی آ ایک ایک کر کھٹی کے جیف اگر یکنویا سکریا ایک وی ایک اور کھٹی کے جیف اگر یکنویا سکریا ایک وی ایک اور کھٹی کے جیف اگر یکنویا سکریا ایک وی ایک اور کھٹی کے ایک اور کھٹیل ایک اور دواد کی او میصد اور تھٹیل	كۈنك " خى كوا قريد يە- دور دور كور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور
ے شک عالی علی میں درخ اللہ اور جی ا اُی اور افیس شیئر بولڈرز کی جانب سے حظو ام کار چرب اور افاؤنی آقد اللہ ما تعالی در	ر جزل چنگ کے فراس کے ساتھ ہور خیر ۔ در وہ کی تبدیلیاں در کار وہ ل آو وہ شال کی جاگی ا ف کے لیے خروری یا ساس سجے جانے والے ت بھی ایم قرار داد کی تعلیمت کرتے	ایکن میں گاؤہ تر آئم اور اضافے ، جیسا کہ غیر معمول حقط موجد دیں اس کے اور بیا منظور کے جاتے ہیں۔ استان کی جائیے سے نظر جائی شدہ مسووے میں اگر کو فرادرداد کی منظور کی کار تائے تافذ العمل ہوں گی۔ رکی کو احتیار ویا جاتا ہے کہ دواس قرار داد کو تافذ کرنے	آر یکور آف الدوی الیش می ترجم کے لیے، ا ایک کہ سکون کے موجودہ آر یکور آف الدوی ایک کی سکون کے دور الدوی کا سکون سکر بنزی ک و نے کیا گیا کہ سکیوں نیز ایک کی سکون آف یا اور تصور کیا جائے کی دور پر تراسم اس خصوصی آ نے کیا گیا کہ کہ سکون بیند انگریکنو یا سکر می نے کیا گیا کہ کہ سکون بیند انگریکنو یا سکر بین ایک اور اداد کی فوجے اور تھسیل	کیون کے اسطے کیا کے مصد افتیار کرہ افتیار کرہ افرامورا
ے شکل قالی بیان عمل ورٹ الل اور جن پر کی اور افیس شیئر بولڈرز کی جانب سے سھور ام کار پر ریٹ اور قافونی اقد اللت وائدال ووت عمل / ہم قرار وادکی تالف کرتے کی / می قرار وادکی تالف کرتے کی / میکالف کرتے	ر جزل بینگ کے فرنس کے ساتھ بھور خیر ۔۔ و ان جم کی تبدیلیاں ور کار 20 ل آورہ شال کی جائی۔ ان کے لیے خروری یا سناس مجھ جائے والے قال گئی ایم قرار داد کی تعلیمت کرتے گئی بھات ردی سول او کنور کر ایگ پر تھیجیں اگر کی ۔۔ ان کے جدر موسول ہونے والا وطرف دو تنگ شی	ایشن می گوزه و ایم ادر اضاف و بیدا که قیر معموا خلام و جدوی اس که ارسید منظور کید جائے ہیں۔ استان کی جائی ہے خطر جائی شدہ معود سے جس اگر کو اُر دودہ کی منظور کی تاریخ سے تافذ افضل بوں گی۔ ری کو اختیار و پایتا ہے کہ دوائ قرار داد کو تافذ کر سا ووٹ کے لیے جام حسمی کی تعداد کار چد روی چنون فواز لرویش رو جسم ؤد فتر ۱۵-۱۵ کر اور کی کا تی (فیر کئی بونے کی صورت میں) اوز کی شنگ	آر یکار آف الله وی الیشن عمی ترجم کے لیے، ا ایک کہ کھٹی کے موجودہ آر یکار آف الله وی ایک کہ کی گئی کے موجودہ آر یکار آف الله وی ایک کی کی کی الله الله الله الله یک کھٹی آف یا الله الله الله کی الله وی الله الله یک خصوصی آخ ایک کی کہا گیا کہ کہ محتی کے جیف الحرکی کی یا سیکر جل ایک الله کی کہا ہے کہ الله الله الله الله الله الله الله الل	ا المحين كا من الما المحين كا من الما المحين كا من الما الما الما الما الما الما الما
ے شکل قالی بیان میں درج اللہ اور جن پر ا کی اور افیس شیئر ہو لڈرز کی جانب سے حصور خ ام کار چر بے اور قافونی اقد امان اور جا ام کار چر بے اور قافونی اقد امان اور جا میں / ہم قرار داد کی تالات کرتے میں / ہم قرار داد کی تالات کرتے میں / ہم قرار داد کی تالات کرتے	ر جزل جنگ کے فرنس کے ساتھ بھور خیر ۔۔ و حم کی جید ملیاں در کار 18 ان آد وہ شال کی جائی۔ فرک کے خروری یا ساس سجے جانے والے ان شرک کے خروری یا ساس سجے جانے والے ان شرک کے خروری یا ساس سجے جانے والے ان شرک کے خروری یا ساس کے کھیں شرک جد موصول ہونے والا والے وو شک میں مارے جد موصول ہونے والا والے وو شک میں	ایشن می گوزه و ایم اور اضاف و بیها که قیر سعوا حقد موجودی اس که او بید حقور کیه جاتے ہیں۔ انتان کی جانب نے افقر جائی شدہ مسودے میں اگر کو فراد دود کی حقور کی گار دائے سے جائیز افضل بول گی۔ ری کو احتیاد و پا جاتا ہے کہ دواس قرار داد کو جائڈ کرنے وحث کے لیے عام حصص کی اقتداد کی کوئی (فیر کی بعد نے کی مسودے میں کا وزی شکار ل جد وجود کی 2026 کے موسول بو جاتا ہا ہے ل کا کوئی (فیر کی بعد نے کا سودے میں کا وزی شکار ل جد وجود کی 2026 کے موسول بو جاتا ہا ہے	آر یکو آف الله وی الیشن میں ترجم کے لیے، ا الیک کہ کھن کے موجودہ آر یکو آف الله وی الیک کہ کی کی موجودہ آر یکو آف الله یک الیک کے کی کی الیک کے کی کھی کھی آف یا الیک کو کی کا الیک کے کھن کے جیف الیک خصوصی آ الیک کو کی کا کے جیف الیک کی یا سیکہ میا الیک کو کی کا کے جیف الیک کی الیک کے کہا تھی کا الیک کی اس محصوصی آ الیک الیک کو محصودہ تھی الیک کی کی الیک کی الیک کی الیک کی کی الیک کریں۔ کی الیک میں الیک کی الیک کی مقرودہ ت کے گئی کا دوراک کی الیک کی الیک کی کی الیک کی کی مقرودہ ت کے گئی کی دوراک کے گئی کی دوراک کی الیک کی الیک کی کی دوراک کی کی کی دوراک کی الیک کی دوراک کی کی کی دوراک کی دوراک کی کی کی کی دوراک کی کی کی کی دوراک کی	المين كري المين كري المين كري المين كري المين كري المين كري المين
ے شکل گالی بیان میں دون آل اور جن پر الدون کی اور جن پر الدوز کی جانب سے متحور شام کا الدون کی اور الدون کا الدون کی کا الدون کا الدون کی کا	ر جزل بینگ کے فرنس کے ساتھ بھور خیر۔۔ ان حرم کی جد بلیاں در کار 10 ان آدوہ ثال کی جائی۔ ان کے لیے خروری یا ساس سی جائے والے والے اوالے کا ان ان کی ایک ترور ان کا سات کرتے ان کی گئی بر 10 سے دوان سول ان کنور کر ایک پر مسکل میں اگری۔ ان کے بعد موصول بور نے وال ویل و ونگ میں	ریشن می گوزه و ایم اور اضاف و بیها که قیر سعوا حقد موجود دی اس که او بید حقور کیه جائے ہی۔ احتان کی جائی ہے نظر جائی شدہ صودے می اگر کو زارداد کی حقور کی کار خالے یا افزاد افغرا بول گی۔ ری کو احتیاد و پا جاتا ہے کہ دواس قرارداد کو جائڈ کر کے میں اور دی بیشن فواز لوبلا رو بسم کی اقتصاد کی کافی (فیر کی بعد نے کی صورت میں) اوزی شبک ا ل بھد وجود کی کامورت میں) اوزی شبک ا ان کارد کر بائیور ما کے بوسط کے و متحالے می کمی جو بیتا جائے۔ ہدیاد روالف کے بوسط کار دولت جی دو کر دید جائی	آر یکو آف الله وی الیشن بین ترجم کے لیے، ا ایک که کھن کے موجودہ آر یکو آف الله الله وی ایک که کی کی موجودہ آر یکو آف الله یک ایک کی کی کی اور یہ ترایم اس خصوصی آ ایک که کی کا اور یہ ترایم اس خصوصی آ ایک که کی کی اور یہ ترایم اس خصوصی آ ایک در اور کی و میصادر محصیل ایک ایک که کی موجود کھیل ایک ایک کم کی اور اور اور ایک میں ایک خوادہ کا کھیل ایک میں میں کریں۔ کی اور	ا من کوئی کے کوئی ا امار کردہ ہے۔ اور امور اور اور امور اور اور امور اور اور امور اور اور امور اور اور امور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور
ے شکل کافی بیان میں دری الد اور جن پہ اُن اور افیل شیر بولڈرزی جانب سے حقور ش اُن کار چریف اور کافی اقدامات اسمال دو ساد ان کار چریف اور کافی کافلت کر کے میں / ہم قرار دادی کافلت کر کے میں / ہم قرار دادی کافلت کر کے میں / ہم قرار دادی کافلت کر کے میں مواجع کے اور کافر کافلت کر گے اور دادی کافلت کر گے اور کو کافلت کر گے اور کو کی کافلت کر گے اور کی کافلت کی کافل کے کافل کی کافل کی کافل کا کافل کے کافل کی کافل کے کافل کی کافل کے کافل کی کافل کی کافل کی کافل کے کافل کے کافل کے کافل کے کافل کی کافل کی کافل کی کافل کے کافل کے کافل کی کافل کے کافل کافل کی کافل کے کافل کی کافل کے کافل کی کافل کی کافل کی کافل کے کافل کی کافل کی کافل کے کافل کی کافل کی کافل کی کافل کے کافل کی کافل کی کافل کے کافل کی کافل کی کافل کے کافل کی کافل کی کافل کی کافل کی کافل کی کافل کے کافل کی کا	ر جزل بینگ کے فرنس کے ساتھ بھور خیر ۔۔ ور حملی جند بالی در کار 15 و وہ شال کی جائی۔ ان کے لیے خروری یا سناس سی جی جائے وہ لے قرار علی ایم قرار داد کی تعالیت کرتے علی ایم قرار داد کی تعالیت کرتے ان کیے بر ان داد کا میں موسول جو نے والا ویات وہ شاک میں سالے۔ سالے جدد موسول جو نے والا ویات وہ شاک میں سالے۔ سالے کی جو تر افزاد قری میں تی تعدد کی کا ایک بر بر در جدود و	ریشن می گوزه و آنم اور اضاف و بیها که قیر سعوا مخط موجود دی اس که او بید مخور کیه جائے ہی۔ ایجان کی جائی ہے نظر جائی شدہ مسودے میں اگر کو زارداد کی مختور کی تاریخ ہے جائی الا کا ری کو اختیار ویا جاتا ہے کہ دواس قرار داد کو جائڈ کر کے ایکا بی روٹ کے بیاج عام حسمی کی تعداد ایک بار کی جو جو دی کو مورے میں ) وزی شکل ایک بار کی جائے ہوئے دی مورے میں کا وزی شکل ایک اور دائل کے بور کے دی حقالے جائی دو کر دیے جائی ا ایک کی جائی ہے دی حقالے جائی دو کر دیے جائی ال	آر یکو آف الله می الیش بین ترجم کے لیے اا ایک که کلی کے موجود وہ آر یکو آف الله الله می کا ایک که کی کی موجود وہ آر یکو آف الله می کا ایک کی کی کی اور یہ آرائم اس خصوصی آ ایک کی کی اور یہ آگاری کی اس خصوصی آ ایک کی کی کا کر کی کی کا کی بیف ایکر یکو یا سیکر بیل ایک کی کاروائی۔ "  ایک کی کاروائی کے میں اور تحصیل  ایک اور اوا کی کو میں اور تحصیل  ایک میں ایک کی کریے  کمل بھر اور اویل کی کریے  کی و انزاز آوی میں کریے۔  کی ان میل کریے۔  کی ان میل میں کریے۔  کی ان میل میں کریے۔  کی ان میل میں کریے۔  کی ان میل میل کریے۔  کی ان میل میل وہ میں ان ان کی مقر دو دقت سے گا	ا من کوئی کے کوئی ا امار کردہ ہے۔ اور امور اور اور امور اور اور امور اور اور امور اور اور امور اور اور امور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور
ے شکل تھا کی بیان میں درج اللہ اور جن پہا ای اور افیل شیئر ہو لڈرز کی جانب سے حصور فر ایم کارچ رید اور تا فوٹی اقد امان اور جا میں / ہم قرار داد کی تالات کرتے میں / ہم قرار داد کی تالات کرتے میں کارچ کی اللہ میں اللہ میں میں مواقعہ میں مواقعہ میں ہو گا۔ ایس کی اور آف اور فی / افتار انز میٹی لیز کی اور ہول کی تعدیق خروری ہے۔ ہول کی تعدیق خروری ہے۔	ر جزل مینگ کے فرنس کے ساتھ بھور خیر ۔۔ ان حم کی تبدیلی در کار وہ ان قوہ شال کی جائی۔ فرک کے ضروری یا سناس سی مجھ جانے وہ الے ان کی المجم قرار دو ان کا ساتھ کرتے کی المجم قرار دو ان کوز کر ایٹی پر مجھیں اس کے بعد موصول ہوئے والا وطن وہ شاک میں اس کے بعد موصول ہوئے والا وطن وہ شاک میں اس کی سورت میں میا کتان کے متعلقہ قرانسل	ریشن می گوزه و ایم اور اضاف و بیها که قیر سعوا حقد موجود دی اس که او بید حقور کیه جائے ہی۔ احتان کی جائی ہے نظر جائی شدہ صودے می اگر کو زارداد کی حقور کی کار خالے یا افزاد افغرا بول گی۔ ری کو احتیاد و پا جاتا ہے کہ دواس قرارداد کو جائڈ کر کے میں اور دی بیشن فواز لوبلا رو بسم کی اقتصاد کی کافی (فیر کی بعد نے کی صورت میں) اوزی شبک ا ل بھد وجود کی کامورت میں) اوزی شبک ا ان کارد کر بائیور ما کے بوسط کے و متحالے می کمی جو بیتا جائے۔ ہدیاد روالف کے بوسط کار دولت جی دو کر دید جائی	آر یکو آف وی ایش بین ترجم کے لیے، ا ایک کہ کفی کے موجودہ آر یکو آف الدوی ایک کے کی کی موجودہ آر یکو آف الدوی ایک کی کی کی اور یہ آرائم اس خصوصی آ ایک ایک کہ کہ کئی کے بیف ایکزیکو یا سکر بنا ایک ایک کہ کہ کئی کے بیف ایکزیکو یا سکر بنا ایک ایک کہ کہ میں اور محصیل ایک ایک کر کھی کے بیف ایکزیکو یا سکر بنا ایک ایک کی ایک کہ کے بیف اور محصیل ایک ایک محل اور اور اور اور ایک کی تروون کے ایک کی ایک کر کے بیا ایک محل ایک اور اور اور اور اور ایک کی تروون کی گئی اور ایک محل کر کے۔ ایک میں ایک محل کر کے۔ ایک میں ایک میں اور	ا علی کی کا کی کا استان کا کی کا
ے شکل تھائی بیان میں دری ہیں اور جن پر اور افیاں شیخ ہو الدر ذکی جانب سے حصور شام اور افیاں شیخ ہو الدر ذکی جانب سے حصور شام اور تاقونی اقد اللہ ماری اور تاقونی اقد سائد کرتے میں اور تاقونی اقد سائد کرتے میں اور تاقونی تاقل میں اور تاقونی ہو گا۔  میں ایم میں اور تا اور اور اور اور اور اور اور اور اور او	ر جزل مینگ کے فرنس کے ساتھ بھور خیر ۔۔ ان حم کی تبدیلی در کار وہ ان قوہ شال کی جائی۔ فرک کے ضروری یا سناس سی مجھ جانے وہ الے ان کی المجم قرار دو ان کا ساتھ کرتے کی المجم قرار دو ان کوز کر ایٹی پر مجھیں اس کے بعد موصول ہوئے والا وطن وہ شاک میں اس کے بعد موصول ہوئے والا وطن وہ شاک میں اس کی سورت میں میا کتان کے متعلقہ قرانسل	ریشن می گوزه و ایم ادر اضاف بیدا که قیر معوار که بات قید معوار که بات قید استان کا بال بید معوار که بات قید استان کا بال بید معوار که بات فیدا که این کا بال بیدا کی بال کا بیدا کا بال کا بیدا که این کا بیدا که بیدا که این کا بیدا که که که بیدا که که که بیدا که که که بیدا که که که که بیدا که	آر یکو آف وی ایش بین ترجم کے لیے، ا ایک کہ کفی کے موجودہ آر یکو آف الدوی ایک کے کی کی موجودہ آر یکو آف الدوی ایک کی کی کی اور یہ آرائم اس خصوصی آ ایک ایک کہ کہ کئی کے بیف ایکزیکو یا سکر بنا ایک ایک کہ کہ کئی کے بیف ایکزیکو یا سکر بنا ایک ایک کہ کہ میں اور محصیل ایک ایک کر کھی کے بیف ایکزیکو یا سکر بنا ایک ایک کی ایک کہ کے بیف اور محصیل ایک ایک محل اور اور اور اور ایک کی تروون کے ایک کی ایک کر کے بیا ایک محل ایک اور اور اور اور اور ایک کی تروون کی گئی اور ایک محل کر کے۔ ایک میں ایک محل کر کے۔ ایک میں ایک میں اور	ا علی کی کا کی کا استان کا کی کا